




- III Level 3
- Urdu / French
- Samrina Sana
- Magriet Brink
- Winni Asara
- 



La poule et le millepattes

لڑکا، لڑکا

This work is licensed under a Creative Commons



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Attribution 3.0 International License.

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by Storybooks Canada in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.


Written by: Winni Asara  
Illustrated by: Magriet Brink  
Translated by: Samrina Sana, (fr) Isabelle Dusson, Véronique Bidau

لڑکا، لڑکا / La poule et le millepattes

[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)

**Storybooks Canada**






چوزی اور ہزارپا دوست تھے۔ لیکن وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان ایک فٹ بال کا مقابلہ ہو گاتا کہ پتہ چل سکے کہ کون بہترین کھلاڑی ہے۔

...

La poule et le millepatte étaient amis. Mais ils étaient toujours en compétition l'un contre l'autre. Un jour, ils décidèrent de jouer au football pour voir qui était le meilleur joueur.

Ils allaient au terrain de football et comme c'était différent à jouer. La poule était rapide, mais le miliepatte était encore plus rapide. La poule envoyait le ballon loin, encore plus rapidement. La poule envoyait le ballon loin, mais le miliepatte l'envoyait encore plus loin. La poule commençait à être de mauvaise humeur.

•






انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جرمانے کی باری لیں گے۔ پہلی بار میں ہزار پا گول کیپر بننا۔ چوزی نے ایک گول کیا پھر چوزی کی باری تھی کہ وہ گول روکے۔

...

Ils décidèrent de tirer des pénaltys. Au début, le millepatte était gardien de but. La poule marqua un seul but. Puis ce fut au tour de la poule d'être le gardien de but.



اس وقت سے چوزے اور ہزار پا دشمن ہیں۔

...

Depuis ce temps, les poules et les millepattes sont ennemis.



Le millepattes tira dans le ballon et marqua. Le millepattes dribbla avec le ballon et marqua. Le millepattes fit une tête avec le ballon et marqua. Le millepattes marqua cinq buts.

3

La poule toussa jusqu'à ce qu'elle recrache le  
millepatté qui était dans son estomac. La maman  
millepatté et son enfant ramperent jusqu'à un arbre  
pour se cacher.

•

شہزادہ شمس

؟ مەن كەنەتىشىجى، جەزىئەن، سخاۋەن، ئەرچىلەن، بەنەنەتىشىجى، ئەرچىلەن، كەنەتىشىجى، ئەرچىلەن،





چوزی غصے میں تھی وہ بڑی طرح سے ہاری تھی۔ ہزار پانچ سو شروع ہو گیا  
کیونکہ اُس کی دوست نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔

...

La poule était furieuse d'avoir perdu. C'était était une très mauvaise perdante. Le millepatte commença à rire parce que son amie faisait tout une histoire.



چوزی نے ڈکار لیا اور تھوکا۔ پھر وہ چھینکی اور کھانسی۔ ہزار پانچ سو شروع ہو گندہ تھا!


...

La poule fit un rot. Puis elle déglutit et cracha. Puis elle éternua et toussa. Et toussa. Le millepatte était dégoûtant !

La poule était tellement en colère qu'elle ouvrit un large bec et avala le millepattes.

...


-عَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّهُ -عَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّهُ



La maman millepattes s'écria « Utilise tes pouvoirs spéciaux mon enfant ! » Les millepattes peuvent faire une mauvaise odeur et donner un mauvais goût. La poule commença à se sentir mal.

...

-عَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّهُ -عَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَّهُ






جیسے چوزی گھر کی طرف جا رہی تھی وہ ہزارپاکی ماں سے ملی۔ ہزارپاکی ماں نے پوچھا کیا تم نے میرے بچے کو دیکھا ہے؟ چوزی نے کچھ نہیں کہا۔ ہزارپاکی ماں بہت پریشان تھی۔

...

Alors que la poule rentrait à la maison, elle rencontra la maman millepatte. La maman millepatte demanda, « as-tu vu mon enfant ? » La poule ne répondit pas. La maman millepatte était inquiète.



ہزارپاکی ماں نے ایک چھوٹی سی آواز سنی میری مدد کرو ماں! روئی ہوئی آواز آئی۔ ہزارپاکی ماں نے اوھر ادھر دیکھا اور غور سے سُنا۔ آواز چوزی کے اندر سے آ رہی تھی۔

...

Puis la maman millepatte entendit une petite voix. « Aide-moi maman ! » Criait la voix. La maman millepatte regarda autour et écouta attentivement. La voix venait de l'intérieur de la poule.